



Roll No _____

SSC-(P-I)- A/2024
(For All Sessions)

Paper Code

5

1

9

1

Mathematics (Science Group)
(Objective)

ریاضی (سائنس گروپ) معروضی

Time: 20 Minutes

(Group-I)

Marks : 15

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیں ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جزو C, B, A یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

- 1.1 $\begin{bmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$ is called matrix. (A) Zero (B) Unit (C) Scalar (D) Singular
2. Write $4^{3/2}$ with radical sign. (A) $\sqrt[3]{4^2}$ (B) $\sqrt[2]{4^3}$ (C) $\sqrt{4^6}$ (D) $\sqrt{8}$
3. The relation $x = \log_z y$ implies. (A) $z^x = y$ (B) $x^z = y$ (C) $y^z = x$ (D) $y^x = z$
4. $a^3 - b^3$ is equal to. (A) $(a+b)(a^2+ab+b^2)$ (B) $(a-b)(a^2-ab+b^2)$ (C) $(a+b)(a^2-ab+b^2)$ (D) $(a-b)(a^2+ab+b^2)$
5. Factors of $3x^2 - x - 2$ are. (A) $(x+1), (3x-2)$ (B) $(x+1), (3x+2)$ (C) $(x-1), (3x-2)$ (D) $(x-1), (3x+2)$
6. H.C.F. of $x-2$ and x^2+x-6 is. (A) $(x-2)$ (B) x^2+x-6 (C) $(x+3)$ (D) $(x+2)$
7. $x = \underline{\hspace{1cm}}$ is a solution of the inequality $-2 < x < \frac{3}{2}$. (A) -5 (B) 0 (C) 3 (D) $\frac{3}{2}$
8. If $(x, 0) = (0, y)$, then (x, y) is. (A) $(0, 1)$ (B) $(1, 0)$ (C) $(0, 0)$ (D) $(1, 1)$
9. Distance between the points $(1, 0)$ and $(0, 1)$ is. (A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) $\sqrt{2}$
10. Total parts of a triangle are: (A) 6 (B) 2 (C) 4 (D) 5
11. In a parallelogram diagonals intersect each other in the ratio: (A) $1:4$ (B) $1:1$ (C) $2:1$ (D) $1:3$
12. The symbol used for perpendicular is: (A) $=$ (B) \leftrightarrow (C) \perp (D) \cong
13. " \sim " symbol is used for: (A) Similar (B) Congruent (C) Equal (D) Perpendicular
14. Medians of a triangle are: (A) 1 (B) 3 (C) 2 (D) 4
15. The right bisectors of the three sides of a triangle are: (A) Congruent (B) Collinear (C) Concurrent (D) Parallel

R

پہاں سے کاٹ کر سہج کریں

Roll No _____

SSC-(P-I)-2024
(For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ

Mathematics (Science Group) (Subjective)

Time: 2:10 hours

(Group-I)


RWP-1-24

Marks : 60

SECTION-I

حصہ اول

2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)
- i. Find the determinant of matrix: $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 2. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:
- ii. Simplify: $\left(\frac{x^{-2}y^{-1}z^{-4}}{x^4y^{-3}z^0}\right)^{-3}$ i. قالب کا قطع معلوم کیجیے:
- iii. Write conjugate of the numbers: $5 - 7i$ ii. مختصر کیجیے:
- iv. Write into sum or difference: $\log_3 \sqrt{\frac{7}{15}}$ iii. کا جو گیت معلوم کیجیے:
- v. Define logarithm. iv. لوگار تھم کے مجموعے یا فرق کی شکل میں تحریر کریں:
- vi. Simplify: $(\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{3}})(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{3}})$ v. لوگار تھم کی تعریف کریں۔
- vii. If $x = 2 - \sqrt{3}$, find $\frac{1}{x}$ vi. مختصر کیجیے:
- viii. Factorize: $x^2 + x - 132$ vii. اگر $x = 2 - \sqrt{3}$ ہو تو $\frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کریں:
- ix. Factorize: $27x^3 - 64y^3$ viii. تجزی کیجیے:
3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)
- i. Find the L.C.M: $39x^7y^3z$ and $91x^5y^6z^7$ ix. تجزی کیجیے:
- ii. Solve: $|3x + 10| = 6$ 3. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:
- iii. Solve: $-\frac{1}{3}x + 5 \leq 1$ i. ذواضائف اقل معلوم کریں:
- iv. Find the value of m and c by expressing it in the form $y = mx + c$ ii. حل کیجیے:
- v. Verify whether the point $(2, 5)$ lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not. iii. حل کیجیے:
- vi. Using the distance formula find the distance between the points. $A(3, 4), B(4, 2)$ iv. مساوات کو $y = mx + c$ میں ظاہر کریں m اور c کی قیمتیں بھی معلوم کریں۔
- vii. Find the midpoint between: v. تصدیق کیجیے کہ دی گئی نقطہ $(2, 5)$ لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہیں یا نہیں۔
- viii. What do you mean by S.A.S postulate? vi. فاصلہ فارمولہ کی مدد سے دو نقطوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔
- ix. Define parallelogram. vii. نقطوں کے جوڑوں کا درمیانی نقطہ بتائیے:
4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)
- i. Define bisector of line segment. viii. ض۔ ض کا موضوع سے کیا مراد ہے؟
- ii. If 10 cm, 6 cm, and 8 cm are the lengths of a triangle, then verify that sum of measure of two sides of triangle is greater than the third side. ix. متوازی الاضلاع کے کہتے ہیں؟
- iii. If ΔLMN shown in the figure $\overline{MN} \parallel \overline{PQ}$ if $m\overline{LM} = 5cm$, $m\overline{LP} = 2.5cm$, $m\overline{LQ} = 2.3 cm$ then find $m\overline{LN}$. 4. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:




P.T.O.

Verify the given sides $a = 5\text{cm}$, $b = 12\text{cm}$, $c = 13\text{cm}$
make right angled triangle.

تصدیق کیجیے کہ اضلاع جن کی لمبائیاں $a = 5\text{cm}$, $b = 12\text{cm}$, $c = 13\text{cm}$ ہیں
قائمہ الزاویہ مثلث بناتے ہیں۔

v. Find the unknown value of x in figure.




شکل میں نامعلوم ہر کی قیمت معلوم کریں۔

vi. Define altitude or height of a triangle.

مثلث کے ارتفاع یا اونچائی کی تعریف کیجیے۔

vii. Find the area of given figure:



دی گئی شکل کا رقبہ معلوم کیجیے:

viii. Define orthocenter.

آرٹھوسنٹر / عمودی مرکز کی تعریف کیجیے۔

ix. Construct a triangle XYZ in which: $m\angle Z = 7.6^\circ$, $m\angle Y = 6.1^\circ$ and $m\angle X = 90^\circ$

مثلث XYZ بنائیں جبکہ:

Section-II

(8x3=24)

حصہ دوم

Note Attempt any three questions in all white Q.No 9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5 (a) Solve by matrix inversion method:

$$\begin{cases} 3x + 2y = -2 \\ 4x + 6y = -4 \end{cases}$$

5 (الف) قابلوں کے معکوس کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Simplify:

$$\frac{(216)^{2/3} \times (25)^{1/2}}{(0.04)^{-1/2}}$$

(ب) مختصر کریں:

6 (a) Use log tables to find the value of:

$$\frac{(438)^3 \times \sqrt{0.056}}{(388)^4}$$

6 (الف) لوگار تھم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کریں:

(b) If $5x - 6y = 12$ then find the value of $125x^3 - 216y^3$

(ب) اگر $5x - 6y = 12$ ہو تو $125x^3 - 216y^3$ کی قیمت معلوم کریں۔

7 (a) If $(x - 1)$ is a factor of $x^3 - kx^2 + 11x - 6$, then find the value of k

7 (الف) اگر $(x - 1)$ کثیر رقمی $x^3 - kx^2 + 11x - 6$ کا جزو ضربی ہو تو k کی قیمت معلوم کریں۔

(b) Find the value of k for which expression will become a perfect square:

$$4x^4 - 12x^3 - 37x^2 - 42x + k$$

(ب) k کی قیمت معلوم کریں جس سے جملہ مکمل مربع بن جائے:

8 (a) Solve the given equations:

$$x + \frac{1}{3} = 2\left(x - \frac{2}{3}\right) - 6x$$

8 (الف) مساواتوں کا حل سیٹ معلوم کیجیے:

(b) Construct $\triangle ABC$ and draw the bisectors of their angles.
 $m\overline{AB} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{BC} = 3.1\text{cm}$, $m\overline{CA} = 5.2\text{cm}$

(ب) مثلث ABC بنائیے اور اس کے زاویوں کا نصف کھینچیں۔

$$m\overline{AB} = 4.5\text{cm}, m\overline{BC} = 3.1\text{cm}, m\overline{CA} = 5.2\text{cm}$$

9 Prove that right bisectors of the sides of a triangle are concurrent.

9 ثابت کریں کہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔

OR

یا

Prove that triangles on the same base and of the same (i.e equal) altitudes are equal in area.

ثابت کریں کہ ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ برابر ہوں گی۔

R



Roll No _____

SSC-(P-I)- A/2024
(For All Sessions)

Paper Code

5

1

9

8

Mathematics (Science Group) (Objective)

Time: 20 Minutes

(Group-II)

Marks : 15

ریاضی (سائنس گروپ) معروضی

RWS-2-24

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی معروضی جوابی کاپی پر لکھیے ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات C, B, A اور D دیئے گئے ہیں، جس کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال نمبر کے سامنے جڑو B, A, C یا D کے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔

Note: Write Answers to the Questions on the objective answer sheet provided. Four possible answers A, B, C and D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A, B, C or D given in front of each question with Marker or Pen ink on the answer sheet provided.

- 1.1 What will be added to complete the square of $9a^2 - 12ab$? 1.1 $9a^2 - 12ab$ کو مکمل مربع بنانے کے لئے کیا جمع کریں گے؟
- (A) $-16b^2$ (B) $16b^2$ (C) $4b^2$ (D) $-4b^2$
2. The square root of $a^2 - 2a + 1$: 2 $a^2 - 2a + 1$ کا جذر مربع ہے۔
- (A) $\pm(a+1)$ (B) $\pm(a-1)$ (C) $(a-1)$ (D) $(a+1)$
3. $x = 0$ is a solution of the inequality _____. 3 $x = 0$ غیر مساوات _____ کے حل سٹ کا رکن ہے۔
- (A) $x > 0$ (B) $3x + 5 < 0$ (C) $x + 2 < 0$ (D) $x - 2 < 0$
4. If $y = 2x + 1$, $x = 2$ then y is: 4 اگر $x = 2$, $y = 2x + 1$ ہو تو y برابر ہے:
- (A) 5 (B) 2 (C) 4 (D) 3
5. A triangle having sides equal is called: 5 ایک مثلث جس کے تینوں اضلاع کی لمبائیاں برابر ہوں وہ کہلاتی ہے:
- (A) Isosceles (B) Scalene (C) Equilateral (D) None of these
6. $H.S \cong H.S$ Postulate is used for only _____ triangles. 6 وتر-مضلع سے وتر-مضلع موضوع _____ مثلثان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
- (A) Acute angled (B) Right angled (C) Obtuse angled (D) None of these
7. One exterior angle formed on producing one side of a parallelogram is 40° then its interior angles are: 7 اگر ایک متوازی الاضلاع کے ایک ضلع کو بڑھانے سے بننے والا ایک بیرونی زاویہ 40° ہو تو اس کے اندرونی زاویوں کی مقداریں ہوں گی:
- (A) $140^\circ, 140^\circ, 140^\circ, 40^\circ$ (B) $40^\circ, 40^\circ, 40^\circ, 140^\circ$ (C) $140^\circ, 120^\circ, 40^\circ, 40^\circ$ (D) $40^\circ, 40^\circ, 140^\circ, 140^\circ$
8. Right angle means angle measure: 8 قائمہ الزاویہ سے مراد وہ زاویہ ہے جس کی پیمائش ہو:
- (A) 90° (B) 30° (C) 180° (D) 60°
9. One and only one line can be drawn through _____ points. 9 _____ نقاط میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچا جاسکتا ہے۔
- (A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 5
10. Median of a triangle divides it into _____ triangles of equal area. 10 مثلث کا وسطیہ اسے برابر رقبے والی _____ مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6
11. If two medians of a triangle are congruent then the triangle will be: 11 اگر ایک مثلث کے دو وسطیے متماثل ہوں تو وہ مثلث _____ ہوگی۔
- (A) Right angled (B) Equilateral (C) Isosceles (D) Acute angled
12. The order of $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ is _____. 12 ماتر $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ کا درجہ _____ ہے۔
- (A) 2 by 3 (B) 3 by 2 (C) 2 by 2 (D) 3 by 3
13. $\left(\frac{27}{64}\right)^{-1/3} =$ _____. 13 $\left(\frac{27}{64}\right)^{-1/3} =$ _____
- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{9}{4}$ (C) $\frac{9}{8}$ (D) $\frac{4}{3}$
14. $\log_a a =$ _____. 14 $\log_a a =$ _____
- (A) a (B) 0 (C) 1 (D) -1
15. $(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) =$ _____. 15 $(3 - \sqrt{3})(3 + \sqrt{3}) =$ _____
- (A) 3 (B) 6 (C) 12 (D) -6

Roll No _____

SSC-(P-I)-2024
(For All Sessions)

ریاضی (سائنس گروپ) انشائیہ

Mathematics (Science Group) Subjective

Time: 2:10 hours

(Group-II)

RWP-2-24

Marks : 60

SECTION-I

2. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

i. Find the values of 'c' and 'd' if:

$$\begin{bmatrix} c-2 & 3 \\ 5 & 4d-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 2d \end{bmatrix}$$

ii. Give a rational number between $\frac{4}{3}$ and $\frac{7}{6}$.

iii. Simplify the radical expression:

$$\sqrt[3]{\frac{-8}{27}}$$

iv. Evaluate:

$$\text{Log}_2 \frac{1}{128}$$

v. Calculate:

$$\text{Log}_3 2 \times \text{Log}_2 81$$

vi. Evaluate $\frac{x^3 y - 2z}{xz}$ for:

$$x = -1, y = -9, z = 4$$

vii. Simplify:

$$(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2$$

viii. Factorize:

$$144a^2 + 24a + 1$$

ix. Use the remainder theorem to find the remainder when $5x^3 - 12x^2 + 11x - 5$ is divided by $(x - 3)$.ix. مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے جب $5x^3 - 12x^2 + 11x - 5$ کو $(x - 3)$ پر تقسیم کیا جائے۔

3. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

i. Find the H.C.F of the expression:

$$39x^7 y^3 z \text{ and } 91x^5 y^6 z^7$$

ii. Solve for x:

$$|3x - 5| = 4$$

iii. Solve the equation:

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x = x + \frac{1}{6}$$

iv. Draw the graph of the equation:

$$x = -6$$

v. Find the value of m and c of the lines expressing in the form of $y = mx + c$:

$$2x - 3y = 1$$

vi. Find the distance between the pair of points

$$A(9, 2), B(7, 2)$$

vii. Find midpoint of the line segment joining pairs of points:

$$A(-9, 3), B(7, 3)$$

viii. Define congruent triangles.

ix. Define parallelogram.

4. Write short answers of any six parts from the following: (2x6=12)

i. Where the right bisectors of the sides of an obtuse triangle intersect each other?

i. منفرجہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو کہاں قطع کرتے ہیں؟

ii. Can the given set of lengths be the lengths of the sides of a triangle?

$$2cm, 4cm, 7cm$$

ii. کیا دی گئی لمبائیاں مثلث بنا سکتی ہیں؟

iii. Define proportion.

iii. تناسب کی تعریف کریں۔

P.T.O.

حصہ اول

2. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. ارکان 'c' اور 'd' کی قیمت معلوم کریں اگر:

ii. اعداد $\frac{4}{3}$ اور $\frac{7}{6}$ کے درمیان ایک مطلق عدد بتائیے۔

iii. ریڈیکل شکل کو ان کی عام شکل میں تبدیل کیجیے:

iv. قیمت معلوم کریں:

v. قیمت معلوم کریں:

vi. $\frac{x^3 y - 2z}{xz}$ کی قیمت معلوم کریں جبکہ

vii. مختصر کریں:

viii. تجزی کیجیے:

ix. مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجیے جب $5x^3 - 12x^2 + 11x - 5$ کو $(x - 3)$ پر تقسیم کیا جائے۔

3. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:

i. جملوں کا عاقد اعظم معلوم کریں:

ii. x کے لیے حل سیٹ معلوم کریں:

iii. مساوات کا حل سیٹ معلوم کریں:

iv. مساوات کا گراف بنائیں:

v. $y = mx + c$ میں ظاہر کرنے کے بعد m اور c کی قیمتیں معلوم کیجیے:

vi. درج ذیل نقاط کے جوڑوں کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔

vii. درج ذیل نقاط کے جوڑوں کو ملانے سے قطعہ خط کار درمیانی نقطہ معلوم کیجیے:

viii. متشابه مثلثان کی تعریف کیجیے۔

ix. متوازی الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

4. درج ذیل میں کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں:


i. منفرجہ مثلث کے اضلاع کے عمودی ناصف ایک دوسرے کو کہاں قطع کرتے ہیں؟

ii. کیا دی گئی لمبائیاں مثلث بنا سکتی ہیں؟

iii. تناسب کی تعریف کریں۔

RWP-2-24

iv. Find unknown value of x:



یا معلوم ہونے کی قیمت معلوم کریں: .iv

v. If $a = 9\text{cm}$, $b = 12\text{cm}$, $c = 15\text{cm}$ then verify that the triangle having these measures of sides is right angled.


اگر $a = 9\text{cm}$, $b = 12\text{cm}$, $c = 15\text{cm}$ ہوں تو تصدیق کریں کہ یہ

ثلاثی الاضلاع مثلث ہے۔

vi. What is triangular region?

.vi مثلثی علاقہ کیا ہوتا ہے؟

vii. Find the area:



.vii رقبہ معلوم کریں:

viii. Define point of concurrency?

.viii ہم نقطہ کی تعریف کریں۔

ix. Construct a triangle XYZ in which: $m\overline{YZ} = 7.6\text{cm}$, $m\overline{XY} = 6.1\text{cm}$ and $m\angle x = 90^\circ$

.ix مثلث XYZ بنائیں جبکہ:

Section-II

(8x3=24)

حصہ دوم

Note: Attempt any three questions in all white Q.No 9 is compulsory:

نوٹ: کل تین سوالات کے جوابات تحریر کریں جبکہ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

5 (a) Solve by using Cramer's rule:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ 4x - 2y = -1 \end{cases}$$

5 (الف) کریمر کے قانون کی مدد سے حل کیجیے:

(b) Simplify:

$$\frac{(81)^n \cdot 3^5 - (3)^{4n-1} (243)}{(9)^{2n} (3)^3}$$

(ب) سنبھریں:

6 (a) Use logarithm to find the value of:

$$0.8176 \times 13.64$$

6 (الف) لوگار تھم کی مدد سے قیمت معلوم کریں:

(b) If $x + y + z = 14$ and $x^2 + y^2 + z^2 = 74$ then find the value of $xy + yz + zx$

$$x + y + z = 14 \text{ اور } x^2 + y^2 + z^2 = 74 \text{ اگر}$$

(ب) $xy + yz + zx$ کی قیمت معلوم کریں۔

7 (a) Factorize:

$$4x^2 - y^2 - 2y - 1$$

7 (الف) تجزی کیجیے:

(b) Find the value of K for which the given expression will become a perfect square:

$$x^4 - 4x^3 + 10x^2 - kx + 9$$

(ب) K کی قیمت معلوم کریں جس کے لئے دی گئی کثیر درجی کلمن مربع بن جائے:

8 (a) Solve the following equations:

$$\left| \frac{3-5x}{4} \right| - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

8 (الف) حل سیٹ معلوم کیجیے:

(b) Construct ΔPQR and draw their altitudes.

(ب) مثلث PQR بنائیے اور اس کے عمود (ارتفاع) کھینچیے۔

$$m\overline{PQ} = 4.5\text{cm}, m\overline{QR} = 3.9\text{cm}, m\angle R = 45^\circ$$

$$m\overline{PQ} = 4.5\text{cm}, m\overline{QR} = 3.9\text{cm}, m\angle R = 45^\circ$$

9 Prove that "The right bisectors of the sides of a triangle are concurrent".

9 ثابت کریں "کسی مثلث کے عمودی نصف ہم نقطہ ہوتے ہیں۔"

OR

یا

Prove that "triangles on the same base and of same (i.e equal) altitudes are equal in area".

ثابت کریں "ایسی مثلثیں جو ایک ہی قاعدہ پر واقع ہوں اور ان کے ارتفاع برابر ہوں وہ رقبہ میں برابر ہوں گی۔"